

وَلَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَسَلٌ مِنْ مِسْكٍ

قرآن مجید

مست ترجمہ
عالمی جناب حضرت مولانا محمد علی صاحب
مؤلف
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن وغیرہ

۲۸

آيَاتُهَا ۲۲

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَكِّيَّةٌ (۵۸)

كُتِبَتْ فِيهَا ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي
 زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
 تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝
 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ
 مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِنْسَانُ
 وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
 مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤِوسًا وَإِنَّ اللَّهَ
 لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ سَقْبَةٍ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ ذَلِكَ لَكُمْ لَوْ عَظَّوْنَ
 بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ
 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ
 مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 اللہ نے اس دعوت، کی بات سن لی، جو تجھ سے اپنے خاوند کے
 بارے میں جھگڑتی تھی، اور اللہ تم سے فریاد کرتی تھی، اور اللہ تم
 دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ تم سننے والا دیکھنے والا ہے
 تم میں جو لوگ اپنی عورتوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں، وہ ان
 کی مائیں نہیں، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے
 انہیں جنا، اور وہ بیہودہ بات اور جھوٹ کہتے
 ہیں۔ اور اللہ (تعالیٰ) یقیناً معاف کرنے والا
 اور مغفرت کرنے والا ہے

اور جو لوگ اپنی عورتوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں پھر اس کی
 طرف واپس لوٹتے ہیں جو کہا تھا، تو ایک غلام کا آزاد
 کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اس کے
 ساتھ تھیں وعظ کیا جاتا ہے اور اللہ تم اسے جو تم کرتے ہو خبردار ہے
 پھر جو کوئی (غلام) نہ پائے تو دو مہینے کے پنے بہ پنے روزے
 ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر جسے
 (یہ) طاقت نہ ہو، تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
 یہ اس لیے کہ تم اللہ تم اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور
 یہ اللہ تم کی (قائم کردہ) حدیں ہیں۔ اور کافروں کے
 لیے دردناک عذاب ہے۔

جو لوگ اللہ تم اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
ذیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے (مخالفت حق کرنا) کیے
ذیل کیے گئے اور ہم نے تو کھلے حکم اتار دیئے ہیں اور کافروں کے
لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے

جس دن اللہ تم ان سب کو اٹھائے گا، پھر انھیں اس کی
خبر دے گا جو انھوں نے کیا ہے اللہ تم نے اسے محفوظ رکھا ہے
اور وہ اسے بھول گئے اور اللہ تم ہر چیز پر گواہ ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تم جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے کوئی تین خفیہ مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے
مگر وہ ان کا پوچھا ہوتا ہے اور نہ پانچ مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے
اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا
ہے جہاں کہیں وہ ہوں پھر انھیں قیامت کے دن اس کی خبر دے گا
جو انھوں نے کیا۔ اللہ (تعالیٰ) ہر چیز کو جاننے
والا ہے

کیا تو نے انھیں نہیں دیکھا، جنھیں خفیہ مشورے سے
روکا گیا پھر وہ لوٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں، جس سے
روکے گئے اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کا خفیہ مشورہ
کرتے ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں۔ تو تجھے اس (کلمہ) سے
دعا دیتے ہیں جس سے اللہ تم نے تجھے دعا نہیں دی اور اپنے دلوں میں کہتے
ہیں اللہ تم کیوں ہیں اس پر عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے
دوزخ کافی ہے وہ اس میں داخل ہونگے سو وہ بُری جگہ ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَصَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كَيْتُوا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ ۗ
& وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَ مَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاِعُهُمْ وَ لَا حَاسِبٍ إِلَّا
هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَ لَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا ۗ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّحُونَ
بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَ إِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
بِهِ اللَّهُ ۗ وَ يَقُولُونَ إِنِّي أَنْفُسِهِمْ كَوَّلَا
يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ط حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ
يُصَلُّونَهَا فَيَنْسَسُ الْمُبْصِرُ ۝

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، جب تم الگ ہو کر بات چیت کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات چیت نہ کرو، اور نیکی اور تقویٰ کی بات چیت کرو۔ اور اللہ تم کا تقویٰ کرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔

یہ افسوسناک مشورہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ انہیں غم میں ڈالے جو ایمان لائے اور وہ مشورہ سوائے اللہ کے اذن کے نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں اور اللہ تم پر یہی چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، تو کھل جایا کرو، تاکہ اللہ تمہیں فریادے۔ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، تو اٹھ جا یا کرو۔ تاکہ اللہ تم ان لوگوں کے درجات بلند کرے جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے علیحدہ بات چیت کرو، تو اپنے مشورے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ مغفرت والا رحم کرنے والا ہے۔

کیا تم ڈر گئے کہ اپنے مشورہ سے پہلے صدقہ دیا کرو، تو جب تم نے (ایسا) نہ کیا اور اللہ تم نے تم پر جو عہد رحمت کیا ہے، تو نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ تم اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْسِنَةِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبُرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ①

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ وَكَانُوا يُبَازِلُونَ إِلَهُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَئِمَّا تَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ ۗ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۗ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

اتَّخَذُوا آيَاتِنَاهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۹﴾

لَنْ تَعْنِيَ عَنْهُمْ آمُورُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ

كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

عَلَىٰ شَيْءٍ ط إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۲۱﴾

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ

ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ ط إِلَّا

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۲﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿۲۳﴾

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط إِنَّ اللَّهَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۴﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو

کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کاٹتے ہیں

جن پر اللہ تم ناراض ہے ، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے

اور وہ جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں

ان کے لیے اللہ تم نے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ بڑا

ہے جو وہ کرتے ہیں۔

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے ، پس اللہ کے رستے سے

روکتے ہیں سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تم کے مقابل پران

کے کسی کام آئیں گے۔ یہ آگ والے ہیں ، وہ اسی

میں رہیں گے۔

جس دن اللہ تم ان سب کو اٹھائے گا ، تو اس کے

سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے

ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی بات پر ہیں دیکھو یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔

شیطان نے ان پر قابو پالیا ہے ، سو انہیں اللہ کا ذکر کھلا

دیا۔ یہ شیطان کا گروہ ہیں۔ دیکھو شیطان کا گروہ ہی

نقصان اٹھانے والے ہیں۔

جو لوگ اللہ تم اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ،

وہ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔

اللہ تم نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا میں اور

میرے رسول۔ اللہ تم طاقتور غالب ہے

تو ان لوگوں کو جو اللہ تم اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے

میں رابسا نہ پائے گا کہ وہ اس سے دوستی رکھیں جو اللہ تم
اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور گو وہ ان کے باپ ہوں
یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے لوگ۔ انہی کے
دلوں کے اندر اللہ تم نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح
سے ان کی تائید کی ہے اور وہ انہیں باغوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انہیں میں رہیں گے۔ اللہ تم
ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ اللہ تم کا گروہ
ہیں سنو! اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا

الْآخِرِ يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۹﴾

آيَاتُهَا ۲۳ (۵۹) سُورَةُ الْحَشْرِ مَكِّيَّةٌ

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا
ظَنُّوهُمْ أَنْ يُخْرَجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتَهُمْ
حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاحْتَبِرُوا
يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ②

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں
اپنے گھروں میں سے پہلے جلا وطنی کے لیے نکالا۔ تم خیال
نہ کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے
قلعے انہیں اللہ تم (کی منزل) سے بچالیں گے، سو اللہ تم ان پر
وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں
میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے
ویران کرتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سوائے
بصیرت والو عبرت حاصل کرو

اور اگر اللہ تم نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تم اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی اللہ تم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تم سزا دینے میں سخت ہے۔

تم نے جو کھجور کا درخت کاٹا، یا اُسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑا۔ سو اللہ (تعالیٰ) کے اذن سے تمہارا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو سزا کرے

اور اللہ تم نے اپنے رسول کو ان سے جو مال غنیمت دلوایا تو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تم اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) ہر چیز پر قادر ہے

جو اللہ تم نے اپنے رسول کو سستیوں والوں سے مال غنیمت دلایا تو وہ اللہ تم کے لیے اور رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ تم میں سے دو لتمدنوں کے اندر نہ پھرتا رہے اور جو تمہیں رسول دیتا ہے وہ لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکتا ہے رُک جاؤ — اور اللہ تم کا تقویٰ کرو۔

اللہ (تعالیٰ) سزا دینے میں سخت ہے (وہ) مہاجر ناداروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ نَكَبْتُمْ مِمَّا قَامَتْ عَلَىٰ أَصْوِلِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنٍّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

مَنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا وَ يَتَّصِرُونَ
 بِهِ وَ رَسُولُهُ أَُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ①
 وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن
 قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
 وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
 مِّمَّا أُوتُوا وَ يُوَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 وَ كُوِّنَ لَهُمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوَقِّ
 شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ②
 وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ③
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَأْفِكُوا يَقُولُونَ
 لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ
 الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
 مَعَكُمْ وَ لَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
 ④ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ
 يَشْهَدُ لَآئِهِمْ لَكَاذِبُونَ ⑤

اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں ، اللہ تم کا فضل اور
 رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی مدد کرتے ہیں ، یہی سچے ہیں
 اور وہ جو ان سے پہلے (ہجرت کے) گھر میں رہتے اور
 ایمان رکھتے تھے وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے
 ان کی طرف آتا ہے اور اپنے سینوں میں اس کی کوئی حاجت
 نہیں پاتے جو انھیں دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر انھیں
 مقدم رکھتے ہیں گواہیں تنگی ہی ہو اور جو شخص اپنے نفس کے بغل
 سے بچ جائے تو وہی کامیاب ہوں گے

اور وہ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں ہمارے رب ہماری
 مغفرت کر اور ہمارے بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت
 لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو ایمان لائے حمد
 نہ پیدا ہوئے لے ہمارے رب تو ہر مان رحم کرنے والا ہے
 کیا تو نے انھیں نہیں دیکھا جو منافق ہیں وہ اپنے بھائیوں
 کو جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا
 تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں
 کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے اور اگر تم سے جنگ کی
 گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ
 گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔

اگر انھیں نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور اگر ان
 سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی
 مدد کریں تو بیٹھیں پھیر دیں گے۔ پھر ان کی کوئی

لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ⑥
 وَ لَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَ لَئِن
 نَّصَرُوهُمْ لَيَكُونَنَّ الْأَدْبَارُ قَد تَّمَّ

لَا يَنْصَرُونَ ﴿۷﴾

مدد نہ ہوگی

اللہ تم کی نسبت تمہارا ڈران کے دلوں میں بہت زیادہ ہے یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔

یہ اکٹھے (بھی) تم سے نہیں لڑیں گے، سوائے اس کے کہ قلعوں سے محفوظ کی ہوئی بستیوں میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تو انہیں اکٹھا سمجھتا ہے اور ان کے دل علمدہ علمدہ ہیں یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے

لَا يَعْقِلُونَ ﴿۸﴾

ران کی حالت، ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کام کی سزا کچھ پکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب، شیطان کی حالت کی طرح، جب وہ انسان کو کتا ہے کفر کفر پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کتا ہے میں تجھ سے بے تعلق ہوں۔

میں اللہ تم جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں

سو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، اسی میں رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ تم کا تقویٰ کرو اور ہر نفس غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ تم کا تقویٰ کرو، اللہ تم اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تم کو بھلا دیا، سو اس نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، یہی نافرمان ہیں۔

آگ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت والے ہی بامراد ہیں۔

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ
مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۷﴾

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى
مُحَصَّنَاتٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُطٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ
قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُونَ ﴿۸﴾

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا
ذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷﴾
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ
اٰكْفُرُوْا فَاكْفَرُوْا قَالَ اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّنْكُمْ
اِنِّیْ اٰخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خٰلِدٰیْنِ
فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَاؤُ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۹﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَتَنْظُرَ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰﴾

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنسَاهُمْ
اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱﴾
لَا يَسْتَوِيْ اَصْحَبُ النَّارِ وَ اَصْحَبُ
الْجَنَّةِ ؕ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰكِرُوْنَ ﴿۱۲﴾

اگر ہم اس قرآن کو پھاڑ پر اتارتے تو تو اسے اللہ کے خوف سے گرا ہوا پھٹا ہوا دیکھتا — اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں

وہی اللہ ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بے انتہا رحم والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، بادشاہ پاک سلامتی والا امن دینے والا نگہبان غالب بگڑے کو بنانے والا سب بڑائیوں کا مالک — اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں

وہی اللہ ہے مادہ کا پیدا کرنے والا، روح کا پیدا کرنے والا۔ مختلف تشکیل بنانے والا اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۰﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۷۱﴾
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۷۲﴾

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۷۳﴾

(۷۰) سُورَةُ الْمُسْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ

اَلْاٰتِهَا ۲۱

اَلْاٰتِهَا ۱۳

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے اسے لوگو! جو ایمان لائے ہو میرے مخالفوں اور اپنے مخالفوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان کی طرف دوستی کے پیغام دو، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس آیا وہ رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں اس لیے کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہو، اگر تم میرے رستہ میں جہاد کے لیے اور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِآيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ط إِنَّ كُنُتُمْ خَوَاجِمًا

میری رضا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تم چھپ کر انہیں دوستی کے پیغام دیتے ہو۔ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تم پر ہدی کے ساتھ چلائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔

تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں نفع نہ دیں گے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تم سے جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے اچھا نمونہ ہے۔ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے بے تعلق ہیں اور اس سے جس کی تم اللہ تم کے سوائے عبادت کرتے ہو، ہم تم سے بیزار ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور سیر ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم کیسے اللہ تم پر ایمان لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے بزرگ کو یہ کہنا کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں اللہ تم کے سامنے تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، لے ہمارے رب ہم نے تجھ پر پھر بسا کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف انجام کا پھر کرنا ہے

لے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے ہاتھ سے جو کافر ہیں نہ پہنچا اور اے ہمارے رب ہماری حفاظت فرما۔ تو غالب

جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۗ
تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءً
وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْأَسْنَتَهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ②

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۗ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَاءُ وَمِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ
لِأَبِيهِ لَا يَبِيه لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَّمْنَاكَ تَوْكَلَنَا
وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ⑤

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
 عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
 الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۗ وَاللَّهُ
 قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
 فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
 أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
 وَ أَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَ ظَهَرُوا عَلَى
 إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ④

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
 مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَسْنَنَهُنَّ ۗ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
 فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَ
 أَنَّهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم

حکمت والا ہے

یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو
 اللہ تمہارے (کے سامنے جانے) اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے۔
 اور جو کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تمہی بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔
 قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ
 ان میں سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے اور اللہ تمہارے
 ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے
 بابے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم
 ان سے احسان کرو اور ان سے انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ
 انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا
 ہے جنہوں نے دین کے بابے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں
 نکالا اور تمہارے نکالنے میں (دوسروں کی) مدد کی اور جو ان سے
 دوستی کرتے ہیں تو وہی ظالم ہیں

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس
 ہجرت کرتی ہوئی آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ ان کے
 ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومنہ جانو، تو انہیں
 کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور
 نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور جو انہوں نے بیچ کر
 ہے انہیں دے دو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أُنْتَبِهُنَّ أَجْرَهُنَّ
وَلَا تُنْسِكُوا بَعْضَ الْكُوفِرِ وَسْئَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفُقُوا عَلَيْكُمْ
وَكَمْ اللَّهُ بِحِكْمٍ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩
وَرَأَى فَاتِكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاثَرًا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَرْوَاحُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهَتَّانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْبِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَرَكُوا قَوْمًا
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ
الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُ مِنْ

نکاح کرو، جب تم انہیں ان کے مردے دو۔
اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روک رکھو اور تم طلب کرو
جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ طلب کریں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔
یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے
اور اگر تمہاری عورتوں کے مہروں سے کچھ تم سے نکل کر کافروں کی طرف
چلا گیا ہے، پھر تمہاری باری آئے تو ان لوگوں کو جن کی عورتیں
چلی گئی ہیں اس کی مثل دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے اور اللہ کا
تقوے کرو جس پر تم ایمان لائے ہو

لے نبی! جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں، تجھ سے بیعت
کریں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی،
اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ
اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں
اور پاؤں کے سامنے کوئی ہتھان باندھ لائیں
گی، اور نہ کسی اچھی بات میں تیسری نافرمانی
کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے
بخشش مانگ، اللہ تمہیں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے
اے لوگو! جو ایمان لائے ہو ان سے دوستی مت کرو، جن پر
اللہ ناراض ہو ہے۔ وہ آخرت سے ایسے ہی
ناامید ہیں، جیسا کہ کافر قبروں والوں کے جی اٹھنے

۳ سے ناامید ہیں

۴ اصحاب القبور ۱۱

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
اللہ تم کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین
میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے
ہو جو تم کرتے نہیں۔

اللہ تم کے نزدیک یہ سخت بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ کہو
جو تم کرتے نہیں۔

اللہ تم ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے رستے میں
صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ مضبوط دیوار ہیں

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے
کیوں ستاتے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تم کا
رسول ہوں، سو جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ تم نے ان کے دل
ٹیڑھے ہی رہنے دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں
کو ہدایت نہیں کرتا۔

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل
میں تمہاری طرف اللہ تم کا رسول ہوں، اس کی تصدیق
کرتا ہوں جو میرے سامنے تورات سے ہے۔ اور ایک
رسول کی خوش خبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔

اس کا نام احمد ہے سو جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں
لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح جادو ہے

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تم پر جھوٹ افرا
کرتا ہے اور اسے اسلام کی طرف بلایا جائے اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ①
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا
لَا تَفْعَلُوْنَ ②

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ
سَبِیْلِهِ صَفًا کَاَنَّهُمْ بُنِیَانٌ مَّرْصُوعٌ ④
وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ یَقَوْمِ لِمَ
تُوَدُّوْنَ نَبِیَّ وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ اِلَیْكُمْ ۖ فَلَیْمًا زَاغًا اَنۡرَاۤءَ اللّٰهَ
ۗ قُلُوْا لَهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ
الْفٰسِقِیْنَ ⑤

وَ اِذْ قَالَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ بَنِیِّ
اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیِّ مِنَ التَّوْرٰتِ
وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَّآئِیْ مِنْۢ بَعْدِی
اَسْمَآءَ اَحْمَدُ ۖ فَلَیْمًا جَآءَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ
قَالُوْۤا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ⑥

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ
الْکَذِبَ وَ هُوَ یَدْعٰی اِلٰی الْاِسْلَامِ ۗ وَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤
 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
 وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَتُوكِرَةَ الْكٰفِرُونَ ⑥
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
 وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ وَتُوكِرَةَ الْمُشْرِكُونَ ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
 تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ⑩
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪
 يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ط
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫

وَ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ
 فَتْحٌ قَرِيبٌ ط وَ بَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ⑬
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ
 كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
 مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
 نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ ط لَافِقَةٌ مِنْ

اللہ تم ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا
 چاہتے ہیں کہ اللہ تم کے نور کو اپنے مومنوں (کی بھونکوں)
 سے بجھادیں اور اللہ تم اپنے نور کو پورا کر کے رہیگا گو کافر برا منائیں۔
 وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ
 بھیجا، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ
 مشرک برا منائیں۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو میں تمہیں ایسی تجارت بتانا
 ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے

تم اللہ تم اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تم
 کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ
 جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
 وہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور
 تمہیں باغوں میں داخل کریگا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور
 پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشگی کے باغوں میں ہیں۔ یہ
 بڑی کامیابی ہے۔

اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو اللہ تم کی طرف سے مدد
 اور نزدیک فتح اور مومنوں کو خوش خبری دے

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ تم (کے دین) کے مددگار
 بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا،
 اللہ تم (کے رستے) میں کون میرے مددگار ہیں، حواریوں نے کہا
 ہم اللہ تم (کے دین) کے مددگار ہیں سو نبی اسرائیل سے ایک گروہ

ایمان لایا، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ سو ہم نے
مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی
سو وہ غالب ہو گئے

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَّاغِيَةً
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَكِّيَّةٌ

آئَاتُهَا ١١

مَكِّيَّةٌ آئَاتُهَا ٢

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے (جو) بادشاہ پاک غالب حکمت
والا ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ﴿١﴾

وہی ہے جس نے اُمیوں کے اندر انہی میں سے
ایک رسول بھیجا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہو
اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور
وہ پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيٰتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ
كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾
وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ
وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

اور ان میں سے اوروں کو بھی - جو ابھی ان کو نہیں ملے
اور وہ غالب حکمت والا ہے
یہ اللہ تم کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ
وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾

ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈالا گیا، پھر انہوں
نے اسے نہ اٹھایا گدھے کی مثال کی طرح ہے (جو کتابیں
اٹھاتا ہے۔ کیا ہی بُری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تم
کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم
لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوْا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ
يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
اَسْفَارًا طِبْسٌ مَّثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِآيٰتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَيْتُمْ
 أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
 فَتَمَتَّعُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤
 وَلَا يَتَمَنَّوْنَآ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
 آيَاتُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑥
 قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ
 فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ
 لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
 إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
 فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ②
 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
 إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا جِئْتُ
 اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ مِنَ التِّجَارَةِ
 وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّزَاقِينَ ③

کہہ اے لوگو! جو یہودی ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ اور
 لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ تم کے دوست ہو تو موت کی
 آرزو کرو اگر تم سچے ہو
 اور کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے
 ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ تم ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
 کہ، موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی،
 پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف
 لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو
 تم کرتے تھے

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن
 نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ (تعالیٰ) کے ذکر کی
 طرف جلدی آ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے
 لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو

پس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور
 اللہ تم کا فضل تلاش کرو اور اللہ (تعالیٰ) کو بہت یاد
 کرو تا کہ تم کامیاب ہو

اور جب تجارت یا کھیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف
 بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہ جو اللہ تم کے پاس
 ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ (تعالیٰ)
 بہترین رزق دینے والا ہے

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَكِّيَّةٌ

اَنفَا ۱۱

كُتِبَ فِيهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ
 لَكَ رَسُولًا لَوْ كَرِهْتَ اللَّهُ وَعَلَّمَ بِإِنَّا
 كَرِهُواكَ وَكَرِهُواكَ وَيَخَذُونَ عِدْلَ
 آلِكَ بَعْدَ مَا نَذَرْنَا لَكُمْ عِدْلًا
 لَكِن بَلَّغُوا مَوْعِدَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ
 اللَّهَ فَهُمْ يُرْتَدُونَ ①

إِذْ خَذُوا عِدْلَ آلِهِمْ جُنَّةً فَصَدُّوا
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَمَعَ
 عَلَى قُلُوبِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ③
 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
 وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّ
 خَشَبَ مُسْتَدَدٍ ④ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ
 صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاذْهَبْ
 قُلُوبَهُمْ اللَّهُ زَالِي يُؤْتِكُمْ ⑤

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ
 رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازِعُ وَّوَسْهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ
 يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑥
 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو ابھی دیتے ہیں
 کہ تو یقیناً اللہ تم کا رسول ہے۔ اور اللہ تم جانتا ہے کہ تو
 اس کا رسول ہے۔ اور اللہ تم کو ابھی دیتا ہے کہ
 منافق یقیناً جھوٹے ہیں

انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، سو وہ
 اللہ تم کے رستے سے روکتے ہیں۔ بُرا کام ہے جو
 یہ کرتے ہیں۔

یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے تو ان
 کے دلوں پر مہر لگ گئی، سو وہ سمجھتے نہیں
 اور جب تو انھیں دیکھتا ہے تو ان کے جسم تجھے اچھے معلوم ہوتے
 ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات کو سنے، گویا کہ وہ
 لکڑیاں ہیں جنھیں لباس پہنایا گیا ہے۔ وہ ہرزور کی آواز کو
 اپنے اوپر تباہی اخیال کرتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں، سو ان سے بچتا
 رہ۔ اللہ تم انھیں ہلاک کرے کس طرح اُلٹے پھر جاتے ہیں

اور جب انھیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ تم کا رسول تمہارے لیے
 بخشش مانگے، وہ اپنے سر بھیر لیتے ہیں اور تو انھیں دیکھتا
 کہ وہ (دوسروں کو بھی) روکتے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں
 ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش مانگے یا ان کے لیے

سَتَعْتَفِرُ لَهُمْ كُنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤
 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى
 مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۗ
 وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْقِلُونَ ⑥

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
 لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَاللَّهُ
 الْعَزِيزُ الرَّسُولُ ۗ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكِنَّ

الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آلَاتُهُمْ أَمْوَالُهُمْ
 وَلَا أَوْلَادُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑧

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ
 لَآ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَأَصَّدَّقَ
 وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑩

وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪

بخشش نہ مانگے، اللہ تم انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ
 نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ تم کے
 رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ چلے جائیں اور اللہ تم
 کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، لیکن
 منافق نہیں سمجھتے۔

کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والے
 ذیل لوگوں کو اس سے نکال دیں گے اور اللہ تم کے لینے
 ہی عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے
 لیے لیکن منافق نہیں جانتے

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو نہ تمہارے مال اور نہ
 ہی تمہاری اولاد تمہیں اللہ تم کے ذکر سے غافل کریں
 اور جو کوئی ایسا کرے تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں

اور اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے
 پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے تو وہ کہے اے
 میرے رب تو نے مجھے ایک قریب وقت تک کیوں مہلت نہ
 دی تو میں صدقہ کرتا اور نیکیوں میں سے ہوتا۔

اور اللہ تم کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت
 مقرر آجائے اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے اللہ تم کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے (کوئی) اکافر ہے اور (کوئی) تم میں سے مومن ہے اور اللہ تم اسے جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تمہاری تصویریں بنائیں سو تمہاری تصویروں کو خوبصورت بنایا اور اسی کی طرف انجام کار جانا ہے۔

وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔

کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، جنہوں نے پہلے کفر کیا، سو انہوں نے اپنے کام کی سزا چکی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے، کیا انسان ہمیں راہ دکھائیں گے سو انہوں نے کفر کیا اور پھر گئے اور اللہ تم کسی کا محتاج نہ تھا اور اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے

جو کافر ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تم ضرور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ وَمِنْكُمْ
مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَاٰحْسَنَ صُوْرًا كُمْ وَاِیْهِ
الْمَصِیْرُ ۝

یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
یَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط

وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝
اَلَمْ یَاْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَبْلُ زَقٰتُوْا وَاَبَالَ اَمْرِهِمْ وَاَلَهُمْ
عَذٰبٌ اَلِیْمٌ ۝

ذٰلِكَ یَاۤاِنَّہٗ كَانَتْ تَاۤیِیٰتِهِمْ رُسُلَهُمْ
بِالْبَیِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَسَرَ یَّہْدُوْنَ وَاَنَّا
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعٰی اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ
غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ۝

زَعَمَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ یُّبْعَثُوْا
قُلْ بَلٰی وَ سَآءَی لِّمَنْ یُّنٰبِئُہُمْ ثُمَّ لَنَنْبِئُوْنَ

بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷﴾

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي

أَنْزَلْنَا وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۸﴾

يَوْمَ يَجْعَلُ لِيَوْمِ الْجُمُعِ ذَلِكَ يَوْمُ

التَّغَابُنِ ط وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ

صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۹﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۰﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ط وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن

تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ سُرُسُورِنَا

الْبَلْغُ الْمُسِينُ ﴿۱۲﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُ كُلِّ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ

وَ أَوْلَادِكُمْ عَدَاؤُكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ط

وَ إِن تَعَفَوْا وَ تَصَفَّحُوا وَ تَغْفَرُوا فَإِنَّ

اس کی خبر دی جائیگی جو تم نے عمل کیے اور یہ اللہ تم پر آسان ہے۔

سوال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم

نے آمارا اور اللہ تم اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔

جس دن کہ وہ تمہیں جمع ہونے کے دن کے لیے اکٹھا کرے گی کی

ظاہر ہو جانے کا دن ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور

نیک عمل کرتا ہے اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے اور اسے

باغوں میں داخل کرتا ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ انہی

میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے

اور جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی

آگ والے ہیں اسی میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔

اللہ تم کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور جو اللہ

پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور

اللہ تم ہر چیز کو جاننے والا ہے

اور اللہ (تعالیٰ) کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو،

پھر اگر تم پھر بڑو تو ہمارے رسول پر صرف کھول کر

پہنچا دینا ہے۔

اللہ تم وہ ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور اللہ

پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری

اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔

اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو، تو

اللہ تم بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے ﴿۱۵﴾

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَآ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

تمہارے مال اور تمہاری اولاد صرف ایک آزمائش ہیں اور اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا

سو اللہ تم کا تقویٰ کرو جہاں تک ہو سکے اور سناؤ اور اطاعت

وَاطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ

کرو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے اور جو

وَمَنْ يُؤَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۷﴾

اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے، تو وہی کامیاب

ہیں۔

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ

اگر تم اللہ کے لیے کوئی اچھا مال الگ کرو تو وہ اسے تمہارے

لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

لیے بڑھاتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے اور اللہ تہد کر نیوالا بڑبڑا

يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۹﴾

پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب حکمت والا ہے۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (۶۵)

الطَّلَاقِ ۲۵

آيَاتُهَا ۱۲

اللہ تہد بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

اے نبی ص جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

شروع میں طلاق دو اور عدت کی حفاظت کرو اور اللہ

لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا

اپنے رب کا تقویٰ کرو، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو

اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ کھلی بے حیائی

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

کریں۔ اور یہ اللہ (تعالیٰ) کی حدیں ہیں۔ اور جو

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ

شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ

اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو نہیں جانتا شاید اللہ اس

ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

کے بعد کوئی بات پیدا کر دے

يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿۲﴾

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَ أَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ
وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرَةِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۝

وَ يَزِدْ لَهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَ مَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بِالْأُمُورِ قَدِ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

وَ الْوَالِدُ يَسِرُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّ ثَلَاثُ
أَشْهُدٍ ۝ وَ الْوَالِدُ لَمْ يَحْضَنْ
الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَ مَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا ۝

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ

پس جب وہ اپنے مفروضہ وقت کو پہنچنے لگیں تو انہیں پسندیدہ
طریق سے روک رکھو یا پسندیدہ طریق سے انہیں جدا کر دو اور
اپنے میں سے دو صاحب عدل گواہ رکھ لو اور گواہی کو اللہ
کے لیے درست ادا کرو، ان باتوں کا اسے وعظ کیا جاتا ہے
جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اور
جو اللہ تم کا تقویٰ کرتا ہے وہ اس کے لیے (مشکلات سے)
نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے

اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی
نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تم پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب
بیشک اللہ تم اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تم نے ہر چیز
کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے

اور جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے ناامید ہو چکی
ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے
اور ان کی بھی اجنبی حیض نہیں آتا، اور حمل والی عورتوں کی
عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنمیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا
تقویٰ کرتا ہے وہ اس کے کام میں آسانی پیدا
کر دیتا ہے

یہ اللہ تم کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے
اور جو شخص اللہ تم کا تقویٰ کرتا ہے وہ اس کی برائیوں کو
اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔

انہیں اپنے مفروضہ کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو،

وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوْهُنَّ لِتَضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ
وَأْتِمُوْا بَيْنَكُمْ بِعَرُوْفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُهُنَّ الْاُخْرَىٰ ۝
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللهُ لَا يَكْلِفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا
مَا آتَاهَا طَيِّبًا لِّيَجْعَلَ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝
وَكَالَّذِيْنَ مِّن قَرْبَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ
رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۖ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكْرًا ۝
فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ
اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاذْقُوْا
اللهُ يَا وِلِيَّ اِلَّا لِبَابِ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
قَدْ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ

اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ اور
اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو،
جہاں تک کہ بچ جنیں۔ پھر اگر وہ تمہارے
لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو۔
اور آپس میں پسندیدہ طور پر مشورہ کر لو۔ اور اگر تم
ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو تو اس کے لیے دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔
چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر
اس کی روزی تنگ ہے تو چاہیے کہ وہ اس سے خرچ کرے
جو اللہ تم نے اسے دیا ہے۔ اللہ تم کسی شخص پر کچھ لازم نہیں کرتا اگر
اسی کے مطابق جو اسے دیا ہے اللہ تم تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔

اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے
رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے اس کا حساب سختی سے لیا،
اور اسے سخت سزا سے عذاب دیا۔

تو انہوں نے اپنے کام کی سزا چکھی، اور ان کے کام
کا انجام گھانا ہی ہوا

اللہ تم نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سوال اللہ
کا تقویٰ کرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو،
اللہ تم نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔

روہ (رسول وہی جو تم پر اللہ کی کھلی آیتیں پڑھتا ہے۔
تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اندھیرے
سے روشنی کی طرف نکالے اور جو اللہ (نعالے) پر ایمان

لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کو باغوں میں نازل
کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ انہی میں رہیگا
اللہ تم نے اسے اچھا رزق دیا ہے

اللہ تم وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے
اور زمین سے انہیں کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے
تا کہ تم جان لو کہ اللہ تم ہر چیز پر قادر ہے۔
اور کہ اللہ (تعالیٰ) نے ہر چیز کا (اپنے) علم سے
احاطہ کر رکھا ہے

بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ
الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ طَيَّبَتْ نَزْلُ الْأَمْرِ
بَيْنَهُنَّ لِنَتَّكَلَمُ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۝

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا ۱۲

آيَاتُهَا ۲۱

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
اسے نبی کیوں اسے حرام کرتا ہے جو اللہ تم نے تیرے لیے حلال
کیا، تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ (تعالیٰ)
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

اللہ تم نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا
ہے اور اللہ تم تمہارا کارساز ہے اور علم والا حکمت والا ہے

اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی،
سو جب اس نے وہ بات بتادی اور اللہ تم نے (نبی کو) اس
پر آگاہ کر دیا تو اس کا کچھ حصہ جتنا دیا اور کچھ حصہ سے
اعراض کیا۔ پس جب اس کو اس کی خبر دی تو اس نے
کہا آپ کو کس نے بیٹایا۔ کہا مجھے علم والے خبردار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْسَانِكُمْ
وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝
وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ
عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ
مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ⑤

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑥

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَنَّ أَنْ يُبْذَلَ
أَنْزَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ مُسَلِّمًا مُؤْمِنًا
فَإِنْ تَلَبَّتْ تَلَبَّتْ عِيْدَاتِ سَلِيحَتِ

تَلَبَّتْ وَ آبَ كَأْرَا ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَ أَهْلِيكُمْ مِرَارًا وَ تَرَدُّدًا
وَ الْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا
الْيَوْمَ إِنَّا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ⑨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ⑩

نے بتایا

اگر تم دونوں اللہ تم کی طرف جھک جاؤ تو تمہارے دل
مائل ہی ہو چکے ہیں اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو
اللہ تم ہی اس کا دوست ہے اور جبرئیل اور صالح مومن بھی۔
اور رب، فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں

اگر وہ تمہیں طلاق دیدے تو اس کا رب بھی اسے تم سے بہتر
بیویاں تمہارے بدلے دیدے۔ مسلم، مومن، فرماں بردار،
توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے
والیاں، بیوہ اور کنواریاں

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و
عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا بندھن انسان اور پتھر ہیں
اس کے اوپر فرشتے (مقرر) ہیں سخت (اور) طاقتور،
اللہ تم جو حکم انہیں دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے،
اور جو کچھ حکم مٹا ہے وہی کرتے ہیں

اے منکر! آج عذرت کرو، تمہیں
وہی بدلے گا جو تم عمل کرتے
تھے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ تم کے آگے
خالص توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے
تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں باغوں میں داخل
کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ تم

نبی م کو اور اُن کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا ، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں چلتا ہوگا کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر اور ہماری مغفرت فرما - تو ہر چیز پر قادر ہے ۳۳۸۱

اے نبی م کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان کے مقابل میں سخت رہ - اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے

اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو کافر ہیں ، نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں ، پھر انھوں نے ان کی خیانت کی پس وہ اللہ کے مقابل میں ان دونوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور کہا گیا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہونیوالوں کے ساتھ داخل چاؤ اور اللہ تم ان کے لیے جو ایمان لائے ، فرعون کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے۔ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے

اور مریم عمران کی بیٹی کی ، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں سے تھی

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقْوَمُونَ رَبَّنَا أَنزَلْنَا نُورًا نَاوَاغْفِرَ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسُ الْمَصِيدِ ﴿٦﴾

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٥﴾
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ سُلُوفِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَدِّمِينَ ﴿٦﴾